

Urdu - FSC Part 2 Urdu Chapter 13 Online Short Questions Test

Q1. - سبق ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے کا تعارف اور پس منظر تحریر کریں۔

Ans 1: ابن انشا کا اصل نام شیر محمد تھا۔ 15 جون 1927 کو جالندھر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1937 میں ہجرت کی پہلے لاہور اور پھر کراچی میں مقیم ہوئے۔ وہ ایک خوبصورت شاعر بھی تھے۔ ان کے تین مجموعے چاند نگر، دل وحشی، اور اس بستی کے اک کوچے میں شائع ہوئے۔ ساٹھ کی دہائی میں ادیبوں کے ایک وفد کے ساتھ چین کا دورہ کیا۔ وہاں کے حالات و واقعات اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں لکھے جو چلتے ہوئے چین کو چلے کے عنوان سے شائع ہو کر مقبول ہوئے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور ان کے دیگر سفر نامے دنیا گول ہے۔ اوارہ گرد کی ڈائری، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، نگری نگری بھرا مسافر کے عنوان سے شائع ہوئے۔

Q2. سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں نیز سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ " اگر کوئی مرزا غالب....." محفوظ رہتے ہیں

Ans 1: تشریح: معروف مزاح نگار ابن انشا افغانستان میں علم و ادب کی ناگفتہ بہ صورت حال اور اشاعتی اداروں کی عدم دستیابی مخصوص شگفتہ انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں پبلشر نام کی مخلوق کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب چھپتی ہے تو سرکاری پریس سے ان کی تعداد بھی پورے ملک میں کل پانچ ہے۔ ان حالات میں اول تو کوئی شخص یا اہل علم کچھ لکھنے کا حوصلہ ہی نہیں گرتا اور اگر اتفاق سے کوئی مرزا غالب یا فیض احمد فیض پیدا ہو بھی جائے جسے اپنی تخلیق پر بہت ناز ہو اور اپنی تخلیقات کو چھپا ہوا دیکھنے کا متمنی ہو تو پہلے تو اسے حکومت کو درخواست دینا پڑتی ہے۔ جس میں اس تخلیق کی اشاعت کو لازمی اور بجا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسودہ حکومت کی تحویل میں چلا جاتا ہے اور بعض اوقات مدتوں سرکاری دفاتر میں پڑا رہتا ہے۔ جب اس کے بے ضرر ہونے کی پوری تسلی کر لی جاتی ہے تو صاحب تخلیق سے اس مصنف کا مکمل خرچ مانگا جاتا ہے اور چھاپنے کے بعد بجائے اس ملک میں پھیلانے کے اسے واپس تخلیق کار کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اسے جہاں چاہے بیچو۔

Q3. - سبق ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ کا خلاصہ تحریر کریں۔

Ans 1: خلاصہ: کابل جاتے ہوئے لوگوں نے وہاں کی سردی سے بہت ڈرایا۔ جس سے بچاؤ کے لیے کسی نے دو اور کوٹ بھی ناکافی قرار دیا۔ کسی نے دگلا نما افغانی کوٹ خریدنے پر اصرار کیا۔ ہم نے ان کیڑوں کی کمی کو دوستوں سے پورا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اپنے گھسے پٹے لبادے ہمارے سر منڈھ دیے۔ پشاور کے بوتلوں کی حالت ناگفتہ بہ ہے کن کے لوگ کسی مقام کا پتا بتانے میں نہایت غیر محتاط واقع ہوئے ہیں وہ کسی مقام کا فاصلہ چند فرلانگ بھی بتائیں تو میل سفر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسا ہی تجربہ ہمیں پی آئی اے کے دفتر کی تلاش کے دوران میں ہوا۔

Ans 2: افغانستان میں پبلشروں اور ریلوے کی صورت حال بھی نہایت حیران کن ہے۔ ریلوے کی پڑیوں نے شیطانی چرخہ اور فرنگیوں کی بدعت سمجھ کر اکھاڑ پھینکا۔ اس طرح پبلشروں اور کتب فروشوں کا حال بھی خاصا پتلا ہے کتابیں صرف سرکاری مطبعوں میں چھپتی ہیں۔ ان کی تعداد بھی پورے ملک میں پانچ ہے، پرائیوٹ پریس کا نام و نشان نہیں۔ جو کتابیں چھپ جاتی ہیں ان میں زیادہ تر ردی کے طور پر بکتی ہیں اور کشمکش چلغوزے ڈالنے کے کام آتی ہیں۔

Ans 3: دریائے کابل کی صورت حال نہایت دگرگوں ہے۔ اگرچہ شہر کے بیچوں بیچ گزرتا ہے لیکن کراچی کے گندے نالوں کی طرح ہے۔ لوگ اسی میں کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ بچوں کے نہانے اور کوڑا پھینکنے کے بھی کام آتا ہے۔ گرمیوں میں برف پگھلنے پر اس چہرے پر الٹ رونق آجاتی ہے اور لوگ مٹکے صراحیوں بھر بھر کر استعمال کا پانی اس میں سے لیتے کیونکہ شہر کے پرانے علاقوں میں پانی کے پائپوں کا کوئی وجود نہیں۔ مختصر یہ کہ یہ ملک ہم سے بھی کوئی ایک صدی پیچھے ہے۔

Q4. - مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں۔

Ans 1: ٹورسٹ: سیاح نرغے میں گھیرے میں معترف: قائل اعتراف کرنے والے۔ تپاک: گرم جوشی، والہانہ پن۔ خلیق: خوش اخلاق، ملنسار۔ متواضع: تواضع کرنے والے۔ زرنگار: کابل کے ایک پارک کا نام قاصر: بے یار و مددگار۔ باہم: مشترکہ۔ دیار غیر: پردیسی۔ کسر نفسی: بنی آدم اعضائے یک دیگر اند: تمام انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔

Q5. سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں نیز سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ " اگر کوئی مرزا غالب....." محفوظ رہتے ہیں

Ans 1: سیاق و سباق: اس پیراگراف میں سفر نامہ تحریر کیا گیا ہے جو کہ کابل کی بجائے واپس پشاور میں جہاز اتارنے کا شگفتہ بیان ہے اس پیراگراف کے سیاق میں

کابل میں ریلوے کی کہانی دریائے کابل کا کراچی کے گندے نالے سے موازنہ دریائے کابل سے مٹکوں میں پانی بھرنے نیز مٹکوں اور صراحیوں کے حوالے سے عمر خیام اور نظام سقہ کا تذکرہ ہے

Q6. - مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں

Ans 1: چین و ما چین: چین و ما چین سے آگے - توران: وسط ایشیا کا وہ علاقہ کبھی ایرانی شہنشاہ فریدوں - چشم دید احوال: آنکھوں دیکھے حالات- تعویق: دیر ، تاخیر- دہنی : طرف: دائیں جانب ، سیدھے ہاتھ- ٹیڑھی میڑھی: بل کھاتی ہوئی- جونے کم آب: ایسی ندی یا نہر جس میں بہت کم پانی موجود ہو- وطنیت: قومیت: کسی ملک ، خطے ، قوم، قبیلے - گھنگور بادل: بادل جو برسنے کے قریب ہو - تن زیب کا نگرکھا: بہت باریک کپڑے سے سلا ہوا چغا یا گاؤن- نگلا: ایسا کوٹ یا چغہ جس میں روئی یا فوم بھری ہوتی ہے۔ طعنے تشنے: گلے شکوے ، برا بھلا کہنا- جونا مارکیٹ: کراچی کی ایک مارکیٹ جو کپڑوں کے لیے معروف ہے- زیر جامہ: کپڑوں کے نیچے پہنا جانے والا لباس- قیاس کیا: خیال کیا، سوچا، اندازہ لگایا- پاونڈوں: افغانستان کے خانہ بدوش - سرمنڈھنا: کوئی چیز زبردستی گھوپ دینا ، جبری عنایت

Q7. - مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں

Ans 1: پبلشر: ناشر ، کتب شائع کرنے والے- کتب فروش: کتابیں بیچنے والے- قندھار: جنوبی افغانستان کا ایک قدیم شہر جو دریائے ارغنداب کے کنارے آباد ہے۔ شیطانی چرغہ: شیطانی کی بنی ہوئی مشین۔ مطبع: چھاپہ خانہ، پرنٹنگ پریس - تالیف: مرتب کردہ - طباعت: چھپائی-مانگ: طلب - شانقین: شوق رکھنے والے- بنیا: پرچون فروش-بدعت: غیر شرعی کام: زنگ خورہ سلیپر : زنگ لگے ہوئے لوہے

Q8. - مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں

Ans 1: آعاجفوری اور حبیب اللہ شہاب: مسنف کے دوست گلہ: کلاہ لمبوتری ٹوپی- دستار: پگڑی- فیلت: انگریزی طرز کی ٹوپی، یورپ میں اس کا استعمال عام ہے۔ لیس کر : آراستہ ہو کر ، زیب تن کرکے- دم تحریر: لکھتے وقت ، جب یہ سطور لکھی جارہی ہیں۔ آتش دان: آگ ڈالنے یا جلانے کی جگہ- کشادہ: کھال ، وسیع-احاطہ: صحن ، حویلی: غالبچہ ، قالین- کترینیں: تکرڑے- لاونچ: برآمدہ، انتظار گاہ- عظمت رفتہ: سابقہ شان و شوکت- آسانش: آرام وسکون، راحت- عمر طبیعی: اصل عمر، متوقع- مدح: تعریف ستائش- عالی حوصلگی: بلند حوصلہ

Q9. سباق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں نیز سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ " اگر کوئی مرزا غالب..... " محفوظ رہتے ہیں

Ans 1: حوالہ متن : سبق کا عنوان: ایک سفرنامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے مصنف کانام: ابن انشا

Q10. - مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں

Ans 1: کاٹھیا واڑ: بھارت کے صوبہ گجرات کا معروف شہر- تبت: عوامی جمہوریہ چین کا ایک خودمختار صوبہ جو انتہائی بلند اور سرد ہے- یہاں کے لوگ منگول نسل سے ہیں - فرسنگ: فاصلے کا ایک پیمانہ جس کی طوالت اٹھارہ ہزار فٹ ہے- طائف: خوف زدہ، ڈرے ہوئے- درہ خیبر: پاکستان کی شمالی مغربی سرحد، پشاور سے چند میل دور ایک درہ ، پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد رفت کا سب سے بڑا ذریعہ- بالوں کا جھاڑ: بے ترتیب اور الجھے ہوئے جھاڑی نما بال قطع و برید اور کنگھی سے بے نیاز بال- وضع قطع: شکل و صورت- سج دھج: انداز ،فیشن، بناوٹ کوپن بیگن: ڈنمارک کا دارالحکومت اور اہم بندرگاہ- منگھو پیر: کراچی کی ایک بستی کا نام - مہم جو: مشکل پسند- گرین لینڈ: شمالی امریکہ کے شمال مشرق میں بحر منجمند شمالی میں واقع ایک جزیرہ